

اس صورت میں جب اسکول بدھ کو 15 اپریل کو دوبارہ کھول نہیں دیتاth ، تعلیم اور سیکھنے کی ضروریات کو جاری رکھنے اور ایک مجازی سیکھنے کے ماحول میں ایسا کرنا ہوگا۔ یہ مدت ایک چھٹی نہیں ہے لیکن ایک وقت ہے جس میں ہر طالب علم کو ان کے معمول سیکھنے معمول کے بعد کی ضرورت ہے۔

اساتذہ روزانہ کی بنیاد پر ان کے طالب علموں کے لئے دستیاب ہوں گے اور سبق کی سرگرمیوں کو فراہم کرنے کے لئے مختلف قسم کے پلیٹ فارم استعمال کریں گے ، تصورات کی وضاحت ، سوالات کا جواب دیں اور پوری کلاس اور انفرادی رائے فراہم کریں۔

ہر روز ، طالب علموں کو ان کی معمول ٹائم ٹیبل پر عمل کرنا ہے۔

مثال کے طور پر ، 14th اپریل کا ہفتہ B ہے۔ سیکھنے کا دن آپ کے tues کے ہفتہ B ٹائم ٹیبل کی پیروی کرے گا . آپ کی مدت میں انگریزی ہے تو 1 ، آپ کمپاس کے ذریعے آپ کے انگریزی کی کلاس کے صفحے تک رسائی حاصل کریں گے اور آپ کے استاد نے اس مدت کے لئے پیدا کیا ہے کام اور کاموں کو شروع . آپ پیر کے ذریعے اس وقت کے دوران اپنے استاد کے ساتھ براہ راست بات چیت کرنے کے قابل ہو جائے گا:

- ای میل
- آن لائن چہرے سے چہرہ کلاس روم کی بات چیت یا تو زوم یا گوگل Hangouts میں اگر استاد ان خصوصیات کا استعمال کرتا ہے

ہر روز ، طالب علموں کو توقع کی جاتی ہے:

- قطب نما کے ذریعے ان کی کلاس کے صفحے کے ذریعے ہر ٹائمٹابلاد سبق کے لئے Lکمانی Plan تک رسائی حاصل کریں
- ان کے استاد کو مطلع کریں کہ وہ ای میل کے ذریعے ان کے شیڈول کردہ سبق پر لاگ ان کرتے ہیں
- رسائی وسائل ، کام جمع کرائیں اور ٹیکسٹ پر مبنی سرگرمیوں جیسے بلاگز ، فورم بحث اور quizzes میں حصہ لیں
- کلاسورک سیکھنے کے کام کو مکمل کرنے اور جمع کرنے کے ذریعے اپنے اساتذہ کو ان کی شرکت اور ترقی کا ثبوت فراہم کریں
- شائع شدہ مقررہ تاریخ کی طرف سے سیکھنے اور تشخیص کے کاموں کو جمع . یہ VCE SACs جو وکا نے اس مرحلے پر مشورہ دیا ہے وہ اسکول میں چل رہا ہے اور اس وجہ سے مناسب وقت تک درندہ گا۔
- کے سوالات پوچھیں اور ان کے سیکھنے کو مطلع کرنے کے لئے ان کے اساتذہ سے رائے کے ساتھ مشغول

اس سہولت کے لئے ، طالب علموں کو اس کی ضرورت ہوگی:

- موجودہ آن لائن وسائل بشمول کمپاس اور دیگر پلیٹ فارمز کا استعمال کرتے ہوئے وہ پہلے ہی ان کی کلاسوں میں استعمال کرتے ہیں (تعلیم کامل، ادلولو، ضروری ریاضی، stile، خان اکیڈمی، edmodo، وغیرہ). طالب علموں کو کسی بھی ڈیجیٹل پلیٹ فارم پر دستخط کرنے یا استعمال کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی جو وہ اسکول میں استعمال نہیں کرتے ہیں۔
- ان کی نصابی کتابوں کا استعمال (ڈیجیٹل یا کاغذ)
- درج کریں بفرسٹ شدہ سٹیشنری اشیاء (ایچی . کاپیوں ، کیلکولیٹر ، قلم اور پنسل ، حکمران وغیرہ
- ان کے اسکول کے ای میل ایڈریس تک رسائی حاصل کرنے اور استعمال کرنے کے قابل ہو جائیں (ذاتی ای میلز یا سوشل میڈیا کے ذریعہ اساتذہ کو کوئی مواصلات نہیں)
- اگر آپ اپنے گھر سے انٹرنیٹ تک رسائی حاصل نہیں کر پا رہے ہیں تو اپنے بچے کے گھر کی قیادت کی ٹیم سے رابطہ کریں - اسکول میں متبادل سیکھنے کی حمایت فراہم کرے گا ، بشمول ہارکاپی سیکھنے کے وسائل کے پوسٹنگ گھر سمیت۔

اسکول کی بندش کا استعمال کس طرح اضافی آگے بڑھانے کے لئے

اینڈریو مکمل

2 کورونا وائرس کے پھیلاؤ کو سست کرنے کے لئے اسکول کی بندش کی پی آر سی کی صلاحیت (COVID-19) سینئر اسکول کے طالب علموں کے لئے ایک اہم چیلنج ہے۔

اس سو فی پر حادثے کے لئے وقت کے ساتھ ایک توسیع کی چھٹی کے طور پر اس کو دیکھنے کے لئے کشش ہے ، تخت کے کھیل کے واقعات کی سفولانس دیکھ کر (پھر) ، لامتناہی گھنٹے پیغام رسانی کے دوستوں کو خرچ کرتے ہیں اور آپ کو اپنے ہاتھوں کو حاصل کر سکتے ہیں کے طور پر بہت سے عظیم نمکین استعمال کرتے ہیں۔ یقیناً جبکہ یہ سب کچھ ہو رہا ہے ، آپ کے والدین کو سب سے زیادہ امکان پاگل ہو جاتا ہے لیکن آپ کو کامل عذر ہے۔ آپ اسکول کے سال کو متاثر کرنے کے لئے نہیں پوچھیں گے۔

اب میں آپ کے پارٹی کے منصوبوں پر ایک دامپائر ڈالنا چاہتا ہوں لیکن اگر آپ ویگ کا فیصلہ کرتے ہیں اور کوئی کام نہیں کرتے ہیں تو ، آپ اسے بعد میں افسوس کر سکتے ہیں۔ ایک اہم سپورٹس ہونے کے خطرے میں ، یہاں غور کرنے کے لئے چند خیالات ہیں۔

ترقی اور ایک نظام پر رکھنا

اہداف اچھے ہیں لیکن نظام بہتر ہیں۔ اگلے چند ہفتوں کے لئے آپ کے مطالعہ پروگرام کے نظام پر فیصلہ کریں اور اس پر رہنا۔ جب آپ سیکھتے ہیں اور سب سے بہتر سوچتے ہیں تو غور کریں اور ان گھنٹوں کو دور نہ ٹکڑا۔

اگر آپ کسی نظام کو تیار نہیں کرتے ہیں تو ، آپ صبح میں اٹھ کھڑے ہوتے ہیں اور اپنے آپ سے کہہ رہے ہیں ، "عظیم ، میں آج کچھ مطالعہ حاصل کرنے کا انتظار نہیں کر سکتا!" میں آپ کو نہیں جانتا لیکن میں یہ بہت اکثر ہو رہا ہے پر ایک شرط رکھنے کے لئے نہیں کرنا چاہتا۔

ایک ایسا نظام تیار کرنا جو آپ کے لئے کام کرتا ہے آپ کو اسکول چھوڑ دیا ہے کے بعد آپ کے خود اعتمادی کے متعلمین ہونے کے لئے آپ کو بھی مقرر کرتا ہے۔

یہ پکڑنے کا ایک موقع ہے ، واپس نہ چھوڑیں

سال کا پہلا حصہ تمام سمتوں میں پرواز کے خیالات اور کاغذات کے ساتھ مصروف کیا گیا ہے۔ اس وقت سب سے پہلے آپ کی زندگی میں کچھ آرڈر حاصل کرنے کے لئے استعمال کریں۔ اس بات کو یقینی بنائیں کہ آپ کے نوٹوں کو کوڈت اور صحیح فولڈرز میں ہیں۔


آپ کے پاس پہلے سے بی وسیع

ایک بار جب آپ نے اپنے سامان کو مل کر مل گیا ہے اور سب کچھ صحیح جگہ ہے ، تو آپ اضافے کی منصوبہ بندی کرنے کے لئے شروع کر سکتے ہیں۔ اس سال پہلے سے ہی احاطہ کرتا ہے کہ موضوعات کی فہرست پر موضوع کے لئے ایک تصور نقشہ تیار ہے کہ لنکس اہم متعلقہ خیالات اور ان کے تعلقات کا تعین۔

ایک موضوع کے علاقے کی ایک بصری آؤٹ لائن تیار کرنے سے آپ کی سمجھ دیپانس ، آپ کی یادداشت میں بہتری اور آپ کے نشانات کو بہتر بناتا ہے۔ یہ آپ کے لئے ایک جیت کی کامیابی کی صورت حال ہے۔

کیوں متداخل Diagrams کے ہاتھ نیچے جیت

اس سال اب تک احاطہ کرتا ہے ہر موضوع سے اہم تصورات کو لے لو اور دو تصورات سے متعلق ہیں کہ کس طرح وضاحت دو کم متجاوز حلقوں کو ڈرا۔ متجاوز علاقے میں خیالات کے درمیان مماثلت کے بارے میں کچھ پوائنٹس لکھیں۔ علیحدہ حلقوں میں کچھ اختلافات لکھیں۔ مثال کے طور پر:



تحقیق سے پتہ چلتا ہے کہ خیالات کس طرح ہیں اور یہ بھی کہ وہ کس طرح مختلف طریقے سے نتائج میں اضافہ کرتے ہیں۔

آپ سیکھنے کی طاقت کی تعمیر

www.mylearningstrengths.com میں آپ کی سیکھنے کی طاقت کا تجزیہ اور آپ پہلے سے ہی اچھے ہیں پر تعمیر کرنے کے لئے معلومات کا استعمال. دیگر علاقوں میں ترقی کرنے کے لئے آپ کی طاقت کا استعمال کیسے سیکھنے کے لئے مکمل سیکھنے کی طاقت کی رپورٹ کی ایک کاپی حاصل کریں. آپ کے دماغ کو درست طریقے سے استعمال کرتے ہوئے آپ کو بہتر نتائج حاصل کر سکتے ہیں.

اپنی سوچ کو وسعت دے

آپ کی آئندہ موضوعات کی فہرست فراہم کرنے کے لیے اساتذہ سے پوچھیں - متعلقہ نصوص پڑھیں. تحقیق مستقبل کے موضوعات. متعلقہ مضامین تلاش کرنے کے لیے Google اسکالر کا استعمال کریں - اگر ایسے تصورات ہیں جو سمجھنے کے لئے مشکل لگ رہے ہیں تو ، طالب علموں کے لئے تلاش کریں دوسرے طالب علموں کے فائدے کے لئے ان خیالات کی وضاحت.

ای میل یا اپنے اساتذہ کو فون. ان کے پاس وسائل ہوں گے جو آپ کی مدد کر سکتے ہیں.

بات چیت گہرا خیالات

یونیورسٹیاں عام طور پر اس سبق کا انعقاد کرتے ہیں جہاں خیالات پر بحث کی جاتی ہیں اور دوسرے طلباء کے ساتھ غور کیا جاتا ہے بہت سے اسکول ان کے آن لائن ورژن پیش کر رہے ہوں گے - ان مباحثوں میں شامل ہو جاؤ اور اپنے خیالات اور خیال کی جانچ پڑتال کرنے کے لئے تیار ہو جائے. دوسرے لوگوں کی بحث کے لئے سننے کی وجہ سے ملوث ہونے کے طور پر کبھی بھی طاقتور نہیں ہے. سیکھنا ایک تماشہ کھیل نہیں ہے.

خود کو آزمائیں

اپنے علم کی سطح کے بارے میں اپنے آپ کو ٹیسٹ کرنے کی منصوبہ بندی کریں ، ہفتے میں ایک بار. دوسری طرف ایک جواب یا وضاحت کے ساتھ کارڈ پر سوالات کی ترقی. شغل کارڈ اور بلند آواز سے ان کا جواب. ان لوگوں کو رکھیں جو آپ کو واضح طور پر جواب دیتے ہیں آپ کے حق میں اور ان لوگوں کو جو آپ نے اچھی طرح سے جواب نہیں دیا یا آپ کو بائیں طرف نہیں جانتے. وہ لوگ جو آپ کو واضح طور پر جواب نہیں دے سکتے ہیں ، وقت کے ساتھ زیادہ سیکھنے کی ضرورت ہوتی ہے ، ان سب کو درست کرنے کا مقصد. 50٪ کی طرف سے خود کی جانچ کی میموری میں اضافہ.

ایک سیکھنے زومبی میں تبدیل کرنے کا فیصلہ

آپ نے ان کو نیند سے محروم کر دیا ہے، سکرین پاگل، شکر کی طرف سے نم دماغ، چربی اور کرب توانائی مشروبات اور تھکان کے درمیان شیخی. اپنے آپ کو دیکھ کر اپنی سیکھنے اور زندگی کو تیار رکھیں.

نیند اس وقت ہوتی ہے جب آپ کی سیکھنے اور یادوں کو مضبوط کیا جاتا ہے. یہ بھی آپ کے مدافعتی نظام کو بڑھاتا ہے. اس پر مت چھوڑیں.

آپ کا دماغ آپ کی توانائی کا کم از کم 20٪ استعمال کرتا ہے لہذا اسے چلانے کے لئے اچھا ' ایندھن ' دے. اپنے آپ کو سیکھنے کے لئے تیار ہونے کے لئے ایک صحت مند ناشتا کھاؤ.

باقاعدگی سے گھونٹ پانی. نہ صرف یہ آپ کے دماغ اور جسم کو ہائیڈریٹ ہے ، یہ کشیدگی کو کم کرتی ہے.

یہاں تک کہ اگر آپ گھر کے پابند ہیں تو اپنے آپ کو ایک اچھی جسمانی مشق کی حکومت چند بار ایک ہفتے میں دے.

رابطہ رکھیں

اگر آپ اپنے دوستوں سے الگ تھلگ ہیں تو ، یہ فانتصازا کرنا آسان ہے کہ وہ بہت اچھا وقت ہو. بعض اوقات آپ کبھی یہ سوچ کر سکتے ہیں کہ وہ آپ کے بارے میں بھول گئے ہیں -

آپ سب سے زیادہ اعتماد شخص نہیں ہیں یہاں تک کہ اگر ، دوسروں تک پہنچنے. ان کو آپ کے ساتھ بات چیت کرنے کی دعوت دیتے ہیں. خیالات یا مذاق کا اشتراک کریں.

یہ ہمیشہ کے لئے آخری نہیں ہو گا

دنیا ماضی میں وائرس ہے اور مستقبل میں کچھ زیادہ پڑے گا۔ ہم سب کو باقاعدگی سے اپنے ہاتھوں کو دھونے اور اپنی حفظان صحت اور ہیلتھ کی سطح کو برقرار رکھنے کے لئے زیادہ محتاط ہونا ضروری ہے۔ جبکہ میں آپ کو غیر ضروری خطرات لینے کے لئے نہیں کرنا چاہتا، امکانات کہ آپ یا آپ کے خاندان میں کسی کو سنجیدگی سے بیمار ہو جاتا ہے بہت کم ہے۔

ہم جلد ہی زیادہ معمول کے وقت واپس آ جائیں گے۔

آپ کے سیکھنے کے مزید اچھے ذرائع شامل ہیں:

یو ٹیوب کلیپس ، TED مذاکرات ، پوڈ ، آئی ٹیونز An ، U خان اکیڈمی تصورات کی وضاحت۔

کاپی رائٹ اینڈریو مکمل ، 2020 www.mylearningstrengths.com www.andrewfuller.com.au